

عوامی چارج: کیا یہ مجھ پر لاگو ہوتا ہے؟

عوامی چارج یہ دیکھنے کے لیے ایک جانچ ہے کہ آیا کسی فرد کے لیے مخصوص سرکاری پروگراموں پر منحصر ہو جانے کا امکان ہے۔ عوامی چارج کے اصول کو متعدد مقدمات میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ مقدمات کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین خبروں کے لیے nyc.gov/publiccharge ملاحظہ کریں یا ActionNYC کی ہاٹ لائن کو 800-354-0365 پر، پیر تا جمعہ 9 بجے صبح سے 6 بجے شام تک کال کریں۔

یہاں پر فراہم کردہ معلومات قانونی مشورہ نہیں ہے۔ مزید جاننے یا مفت مشاورت کے لیے کسی بھروسے مند اٹارنی کے ساتھ اپائنمنٹ طے کرنے کے لیے ActionNYC کی ہاٹ لائن کو کال کریں۔ ہاٹ لائن گمنام ہے اور 200 سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔

آپ کے پاس گرین کارڈ ہے۔

عوامی چارج کا اصول آپ پر، بشمول آپ کو اپنے گرین کارڈ کی تجدید کروانے پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔



تاہم، اگر آپ کا ارادہ چھ ماہ سے زائد مدت کے لیے ملک چھوڑنے کا ہو تو آپ کو امیگریشن اٹارنی سے بات کرنی چاہیے۔

آپ درج ذیل میں سے ایک حیثیت کے لیے درخواست دے رہے ہیں یا آپ کے پاس پہلے سے یہ حیثیت ہے: امریکی شہریت، آیا U ویزے، پناہ گزیں، ریفیوجی، خصوصی تارک وطن نابالغ، VAWA کا از خود عرضی دہندہ۔

عوامی چارج کا اصول آپ پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔



آپ جس کسی بھی سرکاری پروگرام کے لیے اہل قرار پاتے ہیں اسے آپ استعمال کرتے رہ سکتے ہیں۔ اس حالت میں رہتے ہوئے موصولہ مراعات آپ کے خلاف شمار نہیں ہوں گی، چاہے آپ دوسری بنیاد پر گرین کارڈ کے لیے درخواست دیں۔

آپ یا آپ کے خاندان کے افراد گرین کارڈ کے لیے درخواست دینے، ویزا کے لیے درخواست دینے یا امریکہ کے اندر سے بی ویزا کی تجدید کروانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔

ترک وطن سے متعلق مشاورت حاصل کریں۔



آپ اب بھی عوامی چارج کی جانچ کے مستوجب نہیں ہو سکتے ہیں۔ چاہے آپ اس جانچ کے مستوجب ہوں، آپ کو موصول ہونے والی عوامی مراعات کو جانچ کا حصہ نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اگر آپ عارضی تحفظ یافتہ حیثیت (Temporary Protected Status, TPS) پروگرام یا بچپن میں آمد کے مدنظر مؤخر شدہ کارروائی (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) پروگرام کی تجدید کروا رہے ہیں تو یہ جانچ لاگو نہیں ہوتی ہے۔

آپ یا آپ کے خاندان کے افراد گرین کارڈ کے لیے درخواست دینے، ویزا کے لیے درخواست دینے یا امریکہ کے باہر سے ویزا کی تجدید کروانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔

ترک وطن سے متعلق مشاورت حاصل کریں۔



امریکہ سے باہر جمع کروائی گئی گرین کارڈ اور ویزا کی درخواستوں کے لیے علیحدہ عوامی چارج اور رہنمائی موجود ہے۔ امیگریشن اٹارنی سے پتہ کر کے عوامی چارج سے متعلق رہنما ہدایات کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اٹارنی نہیں ہے تو ActionNYC ہاٹ لائن کو 800-354-0365 پر کال کریں۔

عوامی چارج: بلا خوف نگہداشت صحت حاصل کریں

عوامی چارج کے اصول کو متعدد مقدمات میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ مقدمات کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین خبروں کے لیے ویب سائٹ nyc.gov/publiccharge ملاحظہ کریں یا ActionNYC کی ہاٹ لائن کو 800-354-0365 پر کال کریں۔

کارروائی جو آپ کر سکتے ہیں	عوامی چارج کا اثر	
<p>بلا خوف نگہداشت حاصل کریں!</p> 	<p>نگہداشت صحت موصول کرنا عوامی چارج کے اصول کے ذریعے نشان زد کردہ عوامی مراعات نہیں ہے۔</p> <p>اگر آپ عوامی چارج کے اصول کے مستوجب ہیں تو ابھی اپنی صحت کا خیال رکھنا آگے چل کر ترک وطن کی آپ کی درخواست کو مستحکم بنا سکتا ہے۔</p>	<p>NYC محکمہ صحت کے کلینکس (NYC Department of Health Clinics) اور NYC ہیلتھ + ہاسپٹلز کمیونٹی ہیلتھ سنٹرز پر نگہداشت موصول کرنا</p>
<p>Medicaid کے لیے اہل نیو یارک کے زیادہ تر باشندے عوامی چارج کے لیے تشویش کے بغیر اندراج کروا سکتے ہیں۔</p> <p>ActionNYC کی ہاٹ لائن کو 800-354-0365 پر کال کر کے ترک وطن سے متعلق مشاورت حاصل کریں۔</p>	<p>بہت سارے تارکین وطن، بشمول پناہ کے طالب، ریفریوجی، تشدد کے بعض متاثرین اور جن لوگوں کے پاس پہلے سے ہی گرین کارڈ ہے وہ عوامی چارج کے اصول کے مستوجب نہیں ہیں۔</p> <p>DACA کے وصول کنندگان ریاست سے فنڈ یافتہ Medicaid کے اہل ہیں، جو عوامی چارج کے اصول کے ذریعے شناخت کردہ عوامی مراعات نہیں ہے۔</p>	<p>Medicaid</p>
<p>خوف کے بغیر اندراج کروائیں!</p> 	<p>یہ سب عوامی چارج کے اصول کے ذریعے نشاندہی کردہ عوامی مراعات نہیں ہیں۔</p> <p>چائلڈ ہیلتھ پلس یا دیگر مراعات میں اپنے بچوں کا اندراج کروانے پر والدین پر برجائے عائد نہیں ہوتا ہے۔</p>	<p>بنگامی Medicaid، حاملہ، خواتین کے لیے Medicaid، ایسنشیل پلان، چائلڈ ہیلتھ پلس یا کوالیفائیڈ ہیلتھ پلان</p>
<p>خوف کے بغیر اندراج کروائیں!</p> 	<p>یہ خدمات عوامی چارج کے اصول کے ذریعے نشاندہی کردہ عوامی مراعات نہیں ہیں۔</p>	<p>NYC کیئر، H+H آپشنز، ہسپتالوں میں چیریٹی کیئر، یا تدریجی فیس اسکیم کے پیمانے والے کمیونٹی ہیلتھ سنٹرز</p>

یہاں پر فراہم کردہ معلومات قانونی مشورہ نہیں ہے۔ مزید جاننے اور مفت مشاورت کے لیے بھروسے مند اٹارنی کے ساتھ ایک اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے ActionNYC کی ہاٹ لائن کو 800-354-0365 پر 9 بجے صبح تا 6 بجے شام، پیر تا جمعہ کال کریں۔ ہاٹ لائن گمنام ہے اور 200 سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔

اگر آپ کا خیال ہے کہ عوامی چارج کے اصول سے آپ یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد متاثر ہو سکتا ہے تو ActionNYC کی ہاٹ لائن کو 800-354-0365 پر کال کریں۔

NYC
Health